



نبی ﷺ کے زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک تو نبی ﷺ کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور دوسرا کوئی کام کرتا تھا کام کرنے والا نہ اپنے بھائی کی نبی ﷺ کے حضور شکایت کی اس پر آپ ﷺ فرمایا: ”و سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے“

انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک تو نبی ﷺ کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور دوسرا کوئی کام کرتا تھا کام کرنے والا نہ اپنے بھائی کی نبی ﷺ کے حضور شکایت کی اس پر آپ ﷺ فرمایا: ”و سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے“

[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے]

انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک تو آپ ﷺ کی مجلس میں آیا کرتا اور علم کے حصول اور آپ ﷺ کے اقوال و افعال سیکھنے کے لیے ہمہ وقت آپ ﷺ کے ساتھ رہتا، جب کہ دوسرا کوئی کام کاج کرتا اور روزی کماتا تھا اس کام کاج کرنے والا نہ نبی ﷺ کے حضور اپنے بھائی کی شکایت کی کہ وہ کام نہیں کرتا اس پر آپ ﷺ نے اس سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ”و سکتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال اور کفالت کرنا تمہارے لیے تمہارے رزق کے حصول میں آسانی کا باعث ہے کیوں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے“

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3126>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

